

Q. Translate the following into English, keeping in view the idiomatic/figurative expression.

(10)

تاریخ ایسے کامیاب لوگوں سے بھری پڑی ہے جنہوں نے اپنی زندگی کا آغاز انتہائی مشکل ترین حالات سے کیا لیکن آگے چل کر وہ دنیا کے کامیاب اور نامور شخصیات میں شمار ہوئے۔ کامیابی، عزت اور شہرت آپ کو کبھی پلیٹ میں رکھ نہیں دی جاتی صرف دولت ہی آپ کو پلیٹ میں رکھ کر دی جاسکتی ہے اس کے لیے بھی ایک شرط لازم ہے کہ وہ آپ کے آباؤ اجداد کے پاس جائیداد ہونی چاہیے پھر ہی آپ کو دولت ملے گی۔ دولت سے آپ دنیاوی لوازمات تو خرید سکتے ہیں لیکن خوشی نہیں خرید سکتے۔ کبھی کبھی انسان کو عزت کمانے میں کئی دہائیاں لگ جاتی ہیں ذلت کمانے میں یا متنازع بننے میں ایک لمحہ ہی کافی ہوتا ہے۔

\*\*\*\*\*

# Translation

History is filled with people who started their life from a difficult situation. But later on, they became world's successful and famous personalities. Success, respect, and fame can never be served in plate but only wealth can be. For this, it is mandatory that your forefathers have the fortune; only then, you will get the wealth. Though, you can buy worldly luxuries through wealth, but not happiness. Sometimes it takes decades for a human to earn respect but only a second, to earn disrespect and become controversial.